

# Exo

## Chapter 35

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	וַיִּקְהַל	מֹשֶׁה	אֶת־	כָּל־	עֲדַת	בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל	וַיֹּאמֶר	אֲלֵהֶם	אֵלֶּה	הַדְּבָרִים
	اور-جمع-کیا	موسیٰ-نے	کو	تمام	جماعت	بیٹوں-کے	اسرائیل-کے	اور-کہا	اُن-سے	یہ	باتیں-ہیں
	<a href="#">H6950</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5712</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0428</a>	<a href="#">H1697</a>	
	אָשֶׁר־	צְנִיָּה	יְהוָה	לַעֲשׂוֹת	אֲתָם:						
	جو	حکم-دیا-ہے	یہوواہ-نے	کرنے-کو	انہیں						
	<a href="#">H6680</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0853</a>								

ہیں: دیئے حکم یہ کو تم نے [ ] رب کہا، کے کر اکٹھا کو جماعت پوری کی اسرائیل نے موسیٰ

2	שֵׁשֶׁת	יָמִים	תַּעֲשֶׂה	מְלָאכָה	וּבְיָמֵם	הַשְּׁבִיעִי	יְהוָה	לָכֶם	קֹדֶשׁ	שַׁבָּת	שַׁבְּתוֹן
	چھ	دن	کیا-جائے	کام	اور-دن-میں	ساتویں	بو	تمہارے-لیے	مقدس	سبت	آرام-کا-دن
	<a href="#">H8337</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H4399</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H7637</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H2766</a>	<a href="#">H1697</a>	
	לִיהְוָה	כָּל־	הָעֲשָׂה	בּוֹ	מְלָאכָה	יּוֹמָת:					
	یہوواہ-کے-لیے	بر	کرنے-والا	اُس-میں	کام	مارا-جائے					
	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H4399</a>							

جائے: دی موت سزائے اُسے کرے کام دن اس بھی جو ہے۔ سبت کا آرام لئے کے رب وہ ہو۔ مُقَدَّس و مخصوص دن ساتواں لیکن جائے، کیا کاج کام دن چھ

3	לֹא־	תִּבְעֲרוּ	אֵשׁ	בְּכֹל	מִשְׁבְּתֵיכֶם	בְּיָוֵם	הַשַּׁבָּת:	פ			
	نہ	تم-جلاؤ	آگ	تمام-میں	اپنے-مکانوں	دن-میں	سبت-کے	-			
	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H0784</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4186</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H7676</a>					

جلانا۔ [ ] نہ تک آگ میں گھروں تمام اپنے دن کے ہفتے

4	וַיֹּאמֶר	מֹשֶׁה	אֶל־	כָּל־	עֲדַת	בְּנֵי־	יִשְׂרָאֵל	לֵאמֹר	זֶה	הַדְּבָר	אֲשֶׁר־
	اور-کہا	موسیٰ-نے	سے	تمام	جماعت	بیٹوں	اسرائیل-کے	کہتے-ہوئے	یہ	بات-ہے	جو
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5712</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H1697</a>		
	צְנִיָּה	יְהוָה	לֵאמֹר:								
	حکم-دیا-ہے	یہوواہ-نے	کہتے-ہوئے								
	<a href="#">H6680</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0559</a>								

بے دی ہدایت نے [ ] رب کہا، سے جماعت پوری کی اسرائیل نے موسیٰ

5	קָחוּ	מֵאֲתֵכֶם	תְּרוּמָה	לִיהְוָה	כֹּל	נָדִיב	לְבָבוֹ	יְבִיאֶהָ	אֵת	תְּרוּמַת	יְהוָה
	لو	اپنے-میں-سے	ہدیہ	یہوواہ-کے-لیے	بر	سخی	دل-والا	لائے	کو	ہدیے	یہوواہ-کے
	<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H8641</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5081</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H8641</a>	<a href="#">H3068</a>	
	זָהָב	וְנֶחֱסֵף	וְנִחְשֵׁת:								
	سونا	اور-چاندی	اور-پیتل								
	<a href="#">H2091</a>	<a href="#">H3701</a>									

چیزوں ان وہ چاہے دینا سے خوشی دلی بھی جو کرو۔ پیش پر طور کے قربانی والی اُٹھانے کو رب کر لا ہدیئے سے میں اُس بے پاس تمہارے کچھ جو کہ

پیتل، چاندی، سونا، دے: کچھ سے میں

6	וּתְכַלֵּת	וְאֲרָגְמוֹן	וְתוֹלְעֵת	שָׁנִי	וְשֵׁשׁ	וְעִזִּים:					
	اور-نیلا	اور-ارغوانی	اور-کیڑا	سرخ	اور-باریک-کتان	اور-بکریوں-کے-بال					
	<a href="#">H8504</a>	<a href="#">H0713</a>	<a href="#">H8144</a>		<a href="#">H5795</a>						

بال، کے بکری کتان، باریک دھاگا، کا رنگ قرمزی اور ارغوانی نیلے،

7	זָהָב	זָהָב	זָהָב	זָהָב	זָהָב	זָהָב
	اور-کھالیں	مینڈھوں-کی	سرخ-رنگی	اور-کھالیں	تخس-کی	اور-لکڑی
	H5785	H0119	H5785	H8476	H6086	H7848

لکڑی، کی کیکر کھالیں، کی تخس کھالیں، بوئی رنگی سرخ کی مینڈھوں

8	זָהָב	זָהָב	זָהָב	זָהָב	זָהָב	זָהָב
	اور-تیل	روشنی-کے-لیے	اور-خوشبو	تیل-کے-لیے	مسح-کے	اور-خوشبو-کے-لیے
	H8081	H3974	H1314	H8081	H7004	H5561

مسالے، لئے کے بخور خوشبودار اور تیل لئے کے کرنے مسح تیل، کا زیتون لئے کے دان شمع

9	זָהָב	זָהָב	זָהָב	זָהָב	זָהָב	זָהָב
	اور-پتھر	سلیمانی-کے	اور-پتھر	جڑے-کے	ایفود-کے-لیے	اور-سینہ-بند-کے-لیے
	H0068	H7718	H4394	H0646	H2833	

گے۔ جائیں جڑے میں کیسے کے سینے اور بلاپوش کے اعظم امام جو جواہر دیگر اور احمر عقیق

10	זָהָב	זָהָב	זָהָב	זָהָב	זָהָב	זָהָב	זָהָב
	اور-بر	دانا	دل	تم-میں-سے	آئے	اور-بنائیں	کو
	H3605	H2450		H0935	H0853	H3605	H6680

فرمایانے رب جو بنائیں کچھ وہ کر آ وہ بیس گر کاری ماہر جتنے سے میں تم

11	זָהָב	זָהָב	זָהָب	זָהָב	זָהָב	זָהָب	זָהָב
	کو	مسکن	کو	اُس-کے-خیمے	اور-کو	اُس-کے-پردے	کو
	H0853	H4908	H0853	H0168	H0853	H4372	H0853

12	זָהָב	זָהָב	זָהָب	זָהָب	זָהָب	זָהָب
	کو	اُس-کے-بینڈوں	کو	اُس-کے-ستونوں	اور-کو	اُس-کی-چوکھٹوں
	H0853	H1280	H0853	H5982	H0853	H0134

پائے، اور ستون شہتیر، تختے، کے دیواروں بکیں، گے، جائیں لگائے اوپر کے اُس جو غلاف وہ اور خیمہ یعنی

12	זָהָב	זָהָב	זָהָב	זָהָب	זָהָב	זָהָב
	کو	صندوق	اور-کو	اُس-کے-ڈنڈوں	کو	سریوش
	H0853	H0727	H0853	H0905	H0853	H3727

پردہ، کا دروازے کے کمرے ترین مُقَدَّس ڈھکنا، کا کفارے کے اُس لکڑیاں، کی اُنھانے اُسے صندوق، کا عہد

13	זָהָב	זָהָב	זָהָب	זָהָب	זָהָب	זָהָب
	کو	میز	اور-کو	اُس-کے-ڈنڈوں	اور-کو	تمام
	H0853	H7979	H0853	H0905	H0853	H3605

روٹیاں، اور سامان سارا کا اُس لکڑیاں، کی اُنھانے اُسے میز کی روٹیوں مخصوص

14	זָהָב	זָהָב	זָהָب	זָהָب	זָהָب	זָהָب
	اور-کو	شمعدان	روشنی-کے	اور-کو	اُس-کے-برتنوں	اور-کو
	H0853	H4501	H3974	H0853	H3627	H0853

تیل، لئے کے دان شمع سمیت، سامان کے اُس چراغ کے رکھنے پر اُس اور دان شمع

15	זָהָב	זָהָב	זָהָב	זָהָب	זָהָب	זָהָب
	اور-کو	قربان-گاہ	بخور-کے	اور-کو	اُس-کے-ڈنڈوں	اور-کو
	H0853	H4196	H7004	H0853	H0905	H0853

15	זָהָב	זָהָב	זָהָב	זָהָב
	اور-کو	پردے	دروازے-کے	دروازے-کے-لیے
	H0853	H4539	H6607	H4908

پردہ، کا دروازے کے خیمے مُقدّس بخور، خوشبودار تیل، کا مسح لکڑیاں، کی اٹھانے اُسے گاہ، قربان کی جلانے بخور

16	וַאֲתָ	מִזְבֵּחַ	הָעֹלָה	וְאֶת־	מִכְבָּר	הַמִּזְבֵּחַ	אֲשֶׁר־	לָו	אֶת־	בְּדִיּוֹ
	کو	قربان-گاہ	سوختنی-قربانی-کے	اور-کو	جھنجری	پیتل-کی	جو	اُس-کی-بے	کو	اُس-کے-ڈنڈوں
	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4196</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4345</a>				<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0905</a>

وְאֶת־	כָּל־	כָּלָיו	אֶת־	הַכִּיּוֹר	וְאֶת־	כַּנּוֹ:
اور-کو	تمام	اُس-کے-برتنوں	کو	حوض	اور-کو	اُس-کی-چوکی
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3627</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3595</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3653</a>

رکھا حوض پر جس ڈھانچا وہ اور حوض کا دھونے سامان، سارا باقی اور لکڑیاں کی اٹھانے اُسے جنگلا، کا پیتل کا اُس گاہ، قربان کی چڑھانے کو جانوروں  
بے، جاتا

17	אֶת	קַלְעֵי	הַחֲצֵר	אֶת־	עַמֻּדָיו	וְאֶת־	וְאֶת	מִסְדָּ	שַׁעַר
	کو	پردوں	صحن-کے	کو	اُس-کے-ستونوں	اور-کو	اُس-کی-چوکھٹوں	اور-کو	دروازے-کے
	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5982</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0134</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H8179</a>

הַחֲצֵר:  
صحن-کے

پردہ، کا دروازے کے صحن سمیت، پائیوں اور کھمبوں کے اُن پردے کے چار دیواری

18	אֶת־	יְתֹדֹת	הַמִּשְׁכָּן	וְאֶת־	יְתֹדֹת	הַחֲצֵר	וְאֶת־	מִיתְרֵיהֶם:
	کو	میخوں	مسکن-کے	اور-کو	میخوں	صحن-کے	اور-کو	اُن-کی-رسیوں
	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3489</a>	<a href="#">H4908</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3489</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4340</a>

رِسے، اور میخیں کی چار دیواری اور خیمے

19	אֶת־	בְּנָדָי	הַשָּׂרָד	לְשֵׁרֶת	בְּקֶדֶשׁ	אֶת־	בְּנָדָי	הַקֹּדֶשׁ	לְאַחֲרָיו	הַזֹּהָן
	کو	لباسوں	بنے-بنائے-کے	خدمت-کرنے-کو	مقدس-میں	کو	لباسوں	مقدس	باروں-کے-لیے	کابن
	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H8278</a>	<a href="#">H8334</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H0175</a>	<a href="#">H3548</a>

وְאֶת־	בְּנָדָי	כַּנּוֹ	לְכַהֵן:
اور-کو	لباسوں	اُس-کے-بیٹوں-کے	کہانت-کرنے-کو
<a href="#">H0853</a>			<a href="#">H3547</a>

ہیں۔ پہنتے لئے کے کرنے خدمت میں مقدس بیٹے کے اُس اور باروں جو لباس مُقدّس وہ اور

20	וַיַּצְאֻ	כָּל־	עֵדָת	בְּנֵי־	יִשְׂרָאֵל	מִלִּפְנֵי	מֹשֶׁה:
	اور-نکلے	تمام	جماعت	بیٹوں	اسرائیل-کے	سامنے-سے	موسی-کے
	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5712</a>		<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H4872</a>

گئی۔ چلی سے پاس کے موسیٰ جماعت پوری کی اسرائیل کر سن یہ

21	וַיָּבֵאוּ	כָּל־	אִישׁ	אֲשֶׁר־	נִשְׂאָו	לְבָבוֹ	וְכָל	אֲשֶׁר	נָדְבָה	רוּחוֹ
	اور-آئے	ہر	آدمی	جس-کو	اُبھارا	اُس-کے-دل-نے	اور-ہر	جس-کو	رضامندی-سے-مائل-کیا	اُس-کی-روح-نے
	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0376</a>		<a href="#">H5375</a>		<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H5068</a>	<a href="#">H7307</a>

אֹתוֹ	הָבִיאוּ	אֶת־	תְּרוּמַת	יְהוָה	לְמִלְאכַת	אֹהֶל	מִזְבֵּחַ	וְלְכָל־	עֲבֹדָתוֹ
اُسے	لائے	کو	بدیے	یہوواہ-کے	کام-کے-لیے	خیمے	ملاقات-کے	اور-تمام	اُس-کی-خدمت
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H8641</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H4399</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H4150</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5656</a>

וְלְבִנְדָי  
اور-لباسوں-کے-لیے  
مقدس  
[H6944](#)

آیا۔ واپس کر لے بدیہ کوئی لئے کے کپڑوں کے اماموں یا سامان کے اُس خیمے، کے ملاقات وہ تھا چاہتا دینا سے خوشی دلی جو جو اور

22	וַיָּבֹאוּ	הָאֲנָשִׁים	עַל-	הַנָּשִׁים	אֶחָד	נָדִיב	לֵב	הַבְּיָאוּ	חָח	וַנָּזִים	וְשִׁבְעַת
	اور-آئے	مرد	ساتھ	عورتوں-کے	بر	سخی	دل-والا	لایا	بالی	اور-بندے	اور-انگوٹھی
	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H0376</a>		<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5081</a>		<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H2397</a>	<a href="#">H5141</a>	<a href="#">H2885</a>

	וְכֹמֶזַע	כָּל-	כָּלִי	זָקָב	וְכָל-	אִישׁ	אֲשֶׁר	הַנְּרוֹף	תְּנוּפֶת	זָקָב	לִיהוָה:
	اور-کڑے	بر	زیور	سوئے-کا	اور-بر	آدمی	جس-نے	بلایا	کی-قربانی	سوئے-کی	یہوواہ-کے-لیے
	<a href="#">H3558</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3627</a>	<a href="#">H2091</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0376</a>			<a href="#">H8573</a>	<a href="#">H2091</a>	<a href="#">H3068</a>

آئے۔ لے چھلے اور بالیاں پنیں، جڑاؤ مثلاً زیورات کے سوئے اپنے سے خوشی دلی خواتین اور مرد لٹے کے ہدیئے کے رب

23	וְכָל-	אִישׁ	אֲשֶׁר-	נִמְצָא	אִתּוֹ	תְּכֵלֶת	וְאַרְגָּמָן	וְתוֹלַעַת	שָׁנִי	וְשֵׁשׁ
	اور-بر	آدمی	جس-کے-پاس	پایا-گیا	اُس-کے-ساتھ	نیلا	اور-ارغوانی	اور-کیزا	سرخ	اور-باریک-کتان
	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0376</a>		<a href="#">H4672</a>	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H8504</a>	<a href="#">H0713</a>		<a href="#">H8144</a>	

	וְעִזִּים	וְעֵרֹת	אֵילִם	מְאָדָּמִים	וְעֵרֹת	תְּחָשִׁים	הַבְּיָאוּ:
	اور-بکریوں-کے-بال	اور-کھالیں	مینڈھوں-کی	سرخ-رنگی	اور-کھالیں	تخس-کی	لائے
	<a href="#">H5795</a>	<a href="#">H5785</a>		<a href="#">H0119</a>	<a href="#">H5785</a>	<a href="#">H8476</a>	<a href="#">H0935</a>

بال، کے بکری کتان، باریک دھاگا، کا رنگ ارغوانی اور قرمزی نیلے، یعنی آیا لے پاس کے موسیٰ اُسے وہ تھا کچھ سے میں چیزوں درکار پاس کے جس جس کھالیں۔ کی تخس اور کھالیں ہوئی رنگی سرخ کی مینڈھوں

24	כָּל-	מְרִים	תְּרוּמַת	כֶּסֶף	וּנְחֹשֶׁת	הַבְּיָאוּ	אֵת	תְּרוּמַת	יְהוָה	וְכָל
	بر	اُنھانے-والا	بدیے	چاندی-کے	اور-پیتل-کے	لایا	کو	بدیے	یہوواہ-کے	اور-بر
	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H8641</a>	<a href="#">H8641</a>	<a href="#">H3701</a>		<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H8641</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3605</a>

	אֲשֶׁר	נִמְצָא	אִתּוֹ	עִזִּי	שָׁשִׁים	לְכָל-	מְלֹאכֶת	הַעֲבֹדָה	הַבְּיָאוּ:
	جس-کے-پاس	پایا-گیا	اُس-کے-ساتھ	لکڑی	کیکر-کی	تمام-کام	کام-کے-لیے	خدمت-کے	لایا
	<a href="#">H4672</a>	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H6086</a>	<a href="#">H7848</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4399</a>	<a href="#">H5656</a>	<a href="#">H0935</a>

گئی۔ لائی پر طور کے ہدیئے بھی لکڑی کی کیکر اور پیتل چاندی،

25	وְכָל-	אִשָּׁה	חַכְמַת-	לֵב	בִּידְיָהָ	טָווּ	וַיָּבִיאוּ	מִטְוָה	אֵת-	הַתְּכֵלֶת	וְאֵת-
	اور-بر	عورت	دانا	دل-والی	اپنے-ہاتھوں-سے	کاتا	اور-لائیں	کاتا-ہوا	کو	نیلے	اور-کو
	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H2450</a>		<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H2901</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H4299</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H8504</a>	<a href="#">H0853</a>

	הָאֲרָגְמָן	אֵת-	תּוֹלַעַת	הַשָּׁנִי	וְאֵת-	הַשָּׁשׁ:
	ارغوانی	کو	کیزے	سرخ	اور-کو	باریک-کتان
	<a href="#">H0713</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H8144</a>	<a href="#">H0853</a>		

کتان۔ باریک اور دھاگا کا رنگ ارغوانی اور قرمزی نیلے، یعنی آئیں لے چیزیں ہوئی کاتی اپنی وہ تھیں ماہر میں کاتنے عورتیں جتنی اور

26	וְכָל-	הַנָּשִׁים	אֲשֶׁר	נָשָׂא	לְבָן	אֲתָנָה	בְּחֻכְמָהָ	טָווּ	אֵת-	הָעִזִּים:
	اور-تمام	عورتوں	جنہیں	اُہارا	اُن-کے-دل-نے	اُنہیں	حکمت-سے	کاتا	کو	بکریوں-کے-بالوں
	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0802</a>		<a href="#">H5375</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H2451</a>	<a href="#">H2901</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5795</a>

آئی۔ لے کر کات یہ وہ تھی چاہتی کرنا کام لے کے مقدس سے خوشی دلی اور تھی ماہر میں کاتنے بال کے بکری عورت جو جو طرح اسی

27	וְהַנְּשָׂאִים	הַבְּיָאוּ	אֵת	אֲבָנֵי	הַשֹּׁהַם	וְאֵת	אֲבָנֵי	הַמְּלֹאִים	לְאֶפֶד
	اور-سرداروں-نے	لایا	کو	پتھروں	سلیمانی-کے	اور-کو	پتھروں	جڑے-کے	ایفود-کے-لیے
	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0068</a>	<a href="#">H7718</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0068</a>	<a href="#">H4394</a>	<a href="#">H0646</a>

وְלַחֲשׂוֹן:  
اور-سینہ-بند-کے-لیے  
[H2833](#)

تھے۔ درکار لے کے کیسے کے سینے اور بلاپوش کے اعظم امام جو آئے لے جواہر دیگر اور احمر عقیق سردار

28	וְאֵת-	הַבָּשָׂם	וְאֵת-	הַשָּׁמֶן	לְמָאֹר	וְלַשְׁמֹן	הַמְּשֻׁחָה	וְלַקְטָרֶת	הַסְּמִים:
	اور-کو	خوشبو	اور-کو	تیل	روشنی-کے-لیے	اور-تیل-کے-لیے	مسح-کے	اور-خوشبو-کے-لیے	بخور-کی
	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1314</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H8081</a>	<a href="#">H3974</a>	<a href="#">H8081</a>		<a href="#">H7004</a>	<a href="#">H5561</a>

آئے۔ لے بھی تیل کا زیتون اور مسالے لئے کے بخور خوشبودار اور تیل کے مسح دان، شمع وہ

29	כָּל- بر	אִישׁ آدمی	וְאִשָּׁה اور-عورت	אֲשֶׁר جس-کو	נָדַב مانٹل-کیا	לְבָם اُن-کے-دل-نے	אֲתָם اُنہیں	לְהַבִּיאַ لانے-کو	לְכֹל- تمام	תְּמִלָּאָה کام-کے-لیے	אֲשֶׁר جو
	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H5068</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4399</a>			
	צִוָּה حکم-دیا-تھا	יְהוָה یہوواہ-نے	לַעֲשׂוֹת کرنے-کو	בְּיָד- ہاتھ-سے	מֹשֶׁה موسیٰ-کے	הַבְּיָאוּ لائے	בְּנֵי- بیٹوں-نے	יִשְׂרָאֵל اسرائیل-کے	נָדָה رضاکارانہ-بدیہ	לְיְהוָה: یہوواہ-کے-لیے	
	<a href="#">H6680</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H5071</a>	<a href="#">H3068</a>			

ד

معرفت کی موسیٰ نے رب جو آئے لے بدیئے لئے کے کام سارے اُس تھے چاہتے دینا کچھ کو رب سے خوشی دلی جو خواتین اور مرد تمام کے اسرائیل یوں تھا۔ کہا کو کرنے

30	וַיֹּאמֶר اور-کہا	מֹשֶׁה موسیٰ-نے	אֶל- سے	בְּנֵי بیٹوں	יִשְׂרָאֵל اسرائیل-کے	רָאוּ دیکھو	קָרָא بلایا-بے	יְהוָה یہوواہ-نے	בְּשֵׁם نام-سے	בְּצִלְאֵל بصلینیل	בֶּן- بیٹا	אוּרִי اوری
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H7121</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H1212</a>	<a href="#">H0221</a>		
	בֶּן- بیٹا	חֹר حور	לְמִטָּה قبیلے-سے	יְהוּדָה: یہوداہ-کے								
	<a href="#">H2354</a>	<a href="#">H4294</a>	<a href="#">H3063</a>									

بے۔ لیا جن کو حور بن اوری بن ایل بضلی کے قبیلے کے یہوداہ نے [ ] رب کہا، سے اسرائیلیوں نے موسیٰ پھر

31	וַיִּמְלֵא اور-بھر-دیا	אֹתוֹ اُسے	רוּחַ- روح-سے	אֱלֹהִים خدا-کے	בְּחִכְמָה حکمت-میں	בְּתְבוּנָה سمجھ-میں	וּבְדַעַת اور-علم-میں	וּבְכָל- اور-ہر	מְלָאכָה: کام-میں
	<a href="#">H4390</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7307</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H2451</a>	<a href="#">H8394</a>	<a href="#">H1847</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4399</a>

بے۔ دیا دے علم درکار لئے کے کام ہر کے تعمیر اور سمجھ حکمت، کے کر معمور سے روح الہی اُسے نے اُس

32	וְלִחְשָׁב اور-سوچے	מְחֻשָּׁב منصوبے	לַעֲשׂוֹת کرنے-کو	בְּזָהָב سونے-میں	וּבְכֶסֶף اور-چاندی-میں	וּבְנִחַשְׁתִּים: اور-پیتل-میں
	<a href="#">H2803</a>	<a href="#">H4284</a>	<a href="#">H2091</a>	<a href="#">H3701</a>		

بے۔ سکتا بنا چیزیں کی پیتل اور چاندی سونے، مطابق کے اُن کر بنا نقشے وہ

33	וּבְחָרֶשֶׁת اور-کاریگری-میں	אֶבֶן پتھر-کی	לְמִלֵּאת جڑے-کو	וּבְחָרֶשֶׁת اور-کاریگری-میں	עֵץ لکڑی-کی	לַעֲשׂוֹת کرنے-کو	בְּכֹל- ہر	מְלָאכָה کام	מְחֻשָּׁב: بہر-کا
	<a href="#">H2799</a>	<a href="#">H0068</a>	<a href="#">H4390</a>	<a href="#">H2799</a>	<a href="#">H6086</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4399</a>	<a href="#">H4284</a>	

رکھتا مہارت بھی میں کاموں اور سارے بہت وہ ہے۔ سکتا بنا چیزیں مختلف سے اُس کر تراش کو لکڑی وہ ہے۔ رکھتا قابلیت کی جڑے کر کاٹ کو جواہر وہ ہے۔

34	וְלַהֲזֹרֵת اور-سکھانے-کو	נָתַן دیا-بے	בְּלִבּוֹ اُس-کے-دل-میں	הָיוּ اُسے	וְאֶחָדָם اور-اہلیاب	בֶּן- بیٹے	אֲחִיסָמֶן اخیسمک	לְמִטָּה قبیلے-سے	דָּן: دان-کے
	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H0171</a>	<a href="#">H0294</a>	<a href="#">H1835</a>	<a href="#">H4294</a>			

بے۔ دی بھی قابلیت کی سکھانے کو دوسروں کو سمک اخی بن اہلیاب کے قبیلے کے دان اور اُسے نے رب ہی ساتھ

מְלָאָה								
بهر-دیا								
H4390								
אָתָם								
انہیں								
H0853								
חֲכֵמַת־								
حکمت-سے								
H2451								
לֵב								
دل-کی								
H3605								
לַעֲשׂוֹת								
کرنے-کو								
H3605								
כָּל-								
ہر								
H3605								
מְלָאָה								
کام								
H4399								
וְהִנְחֵם								
اور-ارغوانی-میں								
H0713								
בְּתוֹלְעַת								
کیڑے-میں								
H8144								
וְהִנְחֵם								
اور-باریک-کتان-میں								
H0707								
וְהִנְחֵם								
اور-بننے-والا								
H0707								
וְהִנְחֵם								
کرنے-والے								
H3605								
וְהִנְחֵם								
اور-بیل-بوئے-بنانے-والا								
H7551								
וְהִנְחֵם								
اور-دستکار								
H2803								
וְהִנְחֵם								
اور-منصوبہ-ساز								
H2803								
וְהִנְחֵם								
اور-منصوبہ-ساز								
H4284								

قرمزی اور ارغوانی نیلے، لٹے، کے کام کے کڑھائی لٹے، کے کام ہر کے گری کاری یعنی بے درکار لٹے کے کام ہر جو بے دی حکمت اور مہارت وہ انہیں نے اُس  
 ہیں۔سکتے بنا بھی نقشے اور ہیں گر کاری ماہر وہ لٹے۔ کے کام کے بُنائی اور لٹے کے بنانے کپڑا سے کتان باریک اور دھاگے کے رنگ